

## ریستوراں پر لاگو COVID-19 سے متعلق تقاضوں کی عمومی خلاف ورزیوں سے گریز کریں

فوڈ سروس اسٹبلشمنٹس کو لازمی طور پر نیو یارک اسٹیٹ کے جاری کردہ COVID-19 سے متعلق تقاضوں کی تعمیل کرنی چاہیے۔ یہ یقینی بنا کر کہ آپ نے مندرجہ ذیل اقدامات کیے ہیں، سب سے زیادہ عمومی طور پر دیکھی گئی خلاف ورزیوں سے اجتناب کریں:

### حفاظتی منصوبہ بنا کر رکھیں۔

- دوبارہ کھولنے کے حوالے سے حفاظتی منصوبہ تیار کریں۔ [کاروبار کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے حفاظتی منصوبہ کا ٹیمپلیٹ](#) ملاحظہ کریں۔
- منصوبے کو سائٹ پر کسی نمایاں جگہ پر پوسٹ کریں۔
- سائٹ کا حفاظتی نگران نامزد کریں جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ منصوبے کے تمام پہلوؤں کی مستقل تعمیل ہو۔

### روزانہ کی صفائی کا لاگ بنا کر رکھیں۔

- صفائی کا ایک لاگ بنائیں جس میں تاریخ، وقت اور صفائی اور جراثیم کشی کا اسکوپ شامل ہو۔ [روزانہ کی صفائی کے لاگ کا ٹیمپلیٹ](#) ملاحظہ کریں۔
- صفائی اور جراثیم کشی کے طریقہ کار اور لاگ کو مکمل کرنے کے حوالے سے عملے کو تربیت دیں۔
- اس بات کو یقینی بنائیں کہ روزانہ صفائی اور جراثیم کشی کی جاتی ہے اور لاگ کو مکمل کیا جاتا ہے۔

### ملازمین کی صحت کی روزانہ اسکریننگ کروائیں۔

- ملازمین کی بذریعہ ذیل اسکریننگ کریں:
  - درجہ حرارت کی جانچ کر کے اور
  - ملازمین سے سائٹ پر یا ریموٹ طریقے سے ایک سوالنامہ مکمل کرنا درکار کر کے۔ [COVID-19 کے اسکریننگ ٹول کا ٹیمپلیٹ](#) ملاحظہ کریں۔
- اسکریننگ کے تمام سوالناموں کا جائزہ لینے اور روزانہ کی بنیاد پر یہ ریکارڈ رکھنے کے لیے کہ صحت کی اسکریننگ کی تمام جانچوں کا جائزہ لیا گیا ہے، کسی شخص کو نامزد کریں اور اس حوالے سے اسکی ذمہ داری متعین کریں۔ [ٹیمپلیٹ کا نمونہ](#) ملاحظہ کریں۔

### ان جگہوں پر 6 فٹ کے فاصلے پر نشانات مقرر کریں جہاں لوگ قطار بناتے ہیں یا اکٹھے ہوتے ہیں۔

- ان جگہوں پر 6 فٹ کی دوری کی نشاندہی کریں (مثال کے طور پر، فرش پر ٹیپ یا اسٹیکرز لگا کر) جہاں:
  - کسٹمرز آرڈر دینے، کھانا لینے، ادائیگی کرنے، بیٹھنے کا انتظار کرنے یا ریست روم استعمال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔
  - ملازمین جمع ہو سکتے ہیں، جیسے کلاک ان اور کلاک آؤٹ اسٹیشنز، صحت کی اسکریننگ کے اسٹیشنز اور وقفے کے کمرے۔

### درکار نشانات پوسٹ کریں۔

- کسٹمرز اور ملازمین کو ذیل کی یاد دہانی کے لیے نمایاں مقامات پر نشانات پوسٹ کریں:
  - اگر بیمار ہیں تو گھر پر رہیں۔
  - اگر وہ ملازم ہیں تو ہر وقت چہرے پر نقاب پہن کر رکھیں، اور اگر کسٹمر ہیں تو جب تک میز پر بیٹھ نہیں جاتے، چہرے پر نقاب پہن کر رکھیں (اپنی ناک اور منہ دونوں کو ڈھانپیں)۔
  - قرنطینہ میں چلے جائیں اگر حال ہی میں انہوں نے ایسی اسٹیٹ کا سفر کیا ہے جہاں [نیویارک اسٹیٹ کی سفری ہدایات](#) کے مطابق COVID-19 کی کمیونٹی کی سطح پر نمایاں منتقلی موجود ہے۔
  - ذاتی حفاظتی سامان مناسب طریقے سے اسٹور اور تلف کریں۔
  - جسمانی فاصلہ قائم رکھنے کی ہدایات پر عمل کریں۔
  - COVID-19 کی علامات یا اس کی زد میں آنے کی اطلاع دیں، اور یہ کہ انہیں ایسا کیسے کرنا چاہیے۔
  - صفائی اور جراثیم کشی کی ہدایات پر عمل کریں۔

- ہاتھوں کی صحت مند حفظان صحت پر عمل کریں۔
- اپنی کھانسی یا چھینک کو اپنے بازو سے ڈھانپیں، اپنے ہاتھوں سے نہیں۔
- خلاف ورزیوں کی اطلاع 833-208-4160 پر کال کر کے یا 855-904-5036 پر "VIOLATION" (خلاف ورزی) لکھ کر بھیج کر دیں۔
- پیٹرنز کی تعداد جو اسٹیٹسمنٹ میں گنجائش کا 25% حصہ بنتی ہے۔
- متعدد زبانوں میں پرنٹ کیے جانے کے قابل نشانات NYC محکمہ صحت کے [COVID-19 کے یوسٹر اور فلانیرز کے ویب پیج](#) پر مل سکتے ہیں۔

9.27.20

صورتحال کے ارتقاء کو دیکھتے ہوئے NYC محکمہ صحت سفارشات تبدیل کر سکتا ہے۔